

Amazigh Ramdane At Mansour

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمُ حِزْبُ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

£ef tarwa nnwen, Iweûûa kwen Öebbi: i uqcic amur n snat tullas. Ma
llant sennig snat n tullas, nnsent amur wis kué n lweôt. Ma yiwet i illan,
ines uzgen. I imawlan is, i yal wa, amur wis sdis n wayen id iooa, ma
isâa mmi s. Ma ur isâa ara mmi s, u weôten t imawlan is, amur wis kué i
immas. Ma isâa atmaten, i immas amur wis sdis, kkes ed ayen
ippuseôfen ne\$ îlabat. Imawlan nnwen, arraw nnwen, ur teôim ara
menyif iten, akken i kwen nefâan. D aêppem n Öebbi. Öebbi, s tidep,

Izga d Bab n ûûwab, d Amusnaw.